



## ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ ﷺ سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ ﷺ نے جواب میں ”نہیں“ فرمایا ہو۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا: ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ ﷺ سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ ﷺ نے (جواب میں) ”نہیں“ فرمایا ہو اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ سے اسلام لانے پر کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے وہ ضرور دی (ایک دفعہ) آپ ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ ﷺ نے دو پہاڑوں کے درمیان موجود ساری بکریاں اس کے دیں وہ واپس اپنی قوم کے پاس گیا اور کہے: اے میری قوم والو! اسلام قبول کرلو، کیوں کہ محمد (ﷺ) اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا یقیناً ایک آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام قبول کرتا، لیکن تھوڑا سی عرصہ گزرتا کہ اسلام اس دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا [صحیح] [متفق علیہ]

حدیث کا مفہوم: ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی ﷺ سے کسی نے دنیوی امور میں سے کچھ مانگا ہو اور آپ ﷺ نے ”نہیں“ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا ہو بلکہ اگر وہ چیز آپ ﷺ کے پاس ہوتی تو آپ ﷺ سے ضرور دے دیتے یا پھر اس مانگنے والے کو اللہ کے حکم سے ”وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ“ اور سوال کرنے والے کو نہ جھڑکیں کی تعمیل میں کوئی اچھی بات کہہ دیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے شفیق تھے آپ ﷺ کے پاس جو بھی شخص (کوئی چیز مانگنے کے لئے) آتا تو آپ ﷺ اس سے دینے کا وعدہ کر لیتے اور اگر آپ ﷺ کے پاس وہ چیز ہوتی تو دے دیتے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا آپ ﷺ نے اپنی ازواج کے پاس (اس کا کھانا مانگنے کے لئے) ایک آدمی کو بھیجا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کون ہے جو اس کو اپنے ساتھ لے جائے؟ یا یہ فرمایا کہ: کون ہے جو اس کی ممان نوازی کرے؟ (بخاری) اسی طرح صحیح بخاری میں سے ل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ ﷺ کے پاس ایک چادر لے کر آئی... اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے یہ آپ کو پہنایا ہے لے لیں اسے لے لیا اور آپ ﷺ کو اس کی ضرورت بھی تھی آپ ﷺ ہمارے پاس آئے تو وہ چادر آپ ﷺ کی تہ بند تھی لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اسے مجھے پہنا دیں آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے نبی ﷺ اس مجلس میں (کچھ دیر) تشریف فرما رہے پھر واپس چلے گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر آپ ﷺ نے اس آدمی کے پاس بھیج دیا لوگوں نے اس سے کہا: تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے یہ چادر آپ ﷺ سے مانگ لی حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ ﷺ سے کسی مانگنے والے کو منع نہیں کرتے ہیں اس پر وہ آدمی کہنے لگا: اللہ کی قسم! میں نے آپ ﷺ سے صرف اس لیے مانگا کہ میری وفات کے دن یہ میرا کفن بن جائے رسول اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہی چادر اس کا کفن بنی آپ ﷺ کا مانگنے والے کے ساتھ یہی رویہ ہوا کرتا تھا اگر وہ چیز آپ ﷺ کے پاس ہوتی تھی تو آپ ﷺ سے عنایت کر دیتے تھے اگرچہ آپ ﷺ کو اس کی ضرورت ہی ہوتی اور اگر وہ آپ ﷺ کے پاس نہیں ہوتی تو پھر آپ ﷺ سے مانگنے والے سے معذرت کر لیتے یا پھر کسی اور وقت کا اس سے وعدہ کر لیتے یا پھر اس کے لیے اپنے صحابہ سے سفارش کر دیتے تھے یہ آپ ﷺ کا جود و کرم اور حسن اخلاق تھا



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

